

Darood Taj

دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْفَخْطِ وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ ❀ صَاحِبِ النَّجِّ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعِلْمِ ❀ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
جِسْمُهُ مَقْدَسٌ مُعَظَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ ❀ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ❀ إِسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ مَنْقُوشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ❀
❀ جَمِيلِ الشَّيْمِ ❀ مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ❀ كَهْفِ الْوَرَى ❀ نُورِ الْهُدَى ❀ صَدْرِ الْعُلَى ❀ بَدْرِ الدُّجَى ❀ شَمْسِ الضُّحَى ❀ وَالْحَرَمِ
وَسِدْرَتِ ❀ وَالْمِعْرَاجِ سَفْرَهُ ❀ وَالْبُرَاقِ مَرْكَبَهُ ❀ وَجَبْرِيلُ خَادِمَهُ ❀ وَاللَّهِ عَاصِمَهُ ❀ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ ❀ شَفِيعِ الْأُمَمِ
❀ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ❀ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ❀ وَالْمَقْصُودِ مَوْجُودَهُ ❀ وَالْمَطْلُوبِ مَقْصُودَهُ ❀ وَقَابِ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ ❀ الْمُنتَهَى مَقَامَهُ
سِرَاجِ ❀ شَمْسِ الْعَارِفِينَ ❀ مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ ❀ رَاحَةِ الْعَاشِقِينَ ❀ رَحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ ❀ أَنَيْسِ الْعَرَبِيِّينَ ❀ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ
❀ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ ❀ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ ❀ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ ❀ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْعُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ❀ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِينَ ❀ السَّالِكِينَ
مَوْلَانَا وَمَوْلَى ❀ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ❀ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ ❀ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ ❀ وَسَيِّدِنَا فِي الدَّارَيْنِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ ❀ يَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ ❀ نُورِ مَنْ نُورِ اللَّهِ ❀ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ❀ الثَّقَلَيْنِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

credit: <https://salawathub.com/darood-taj/>

Darood Taj Transliteration

allahumm sali ealaa sayidina wamawlana muhammad ❀ sahib alttaj walmieraj walburaq
walealam ❀ dafie albala' walwaba' walqaht walmarad wal'alam ❀ aismuh maktub marfue
mashfue manqush fi alllawh walqalam ❀ sayid alearab waleajam ❀ jismuh muqaddas mueattar
mutahhar munawwar fi albayt walharam ❀ shams aldduhaa ❀ badr alddujaa ❀ sadr aleulaa ❀ nur
alhudaa ❀ kahf alwaraa ❀ misbah alzzulam ❀ jamil alshiyam ❀ shafie al'umam ❀ sahib aljud
walkaram ❀ wallh easimuh ❀ wajibril khadimuh ❀ walburaq markabuh ❀ walmieraj safaruh ❀
wasidrat almuntahaa maqamuh ❀ waqab qawsayn matlubuh ❀ walmatlub maqsuduh ❀
walmaqsud mawjuduh ❀ sayid almursalin ❀ khatim alnnabiin ❀ shafie almudhnbibin ❀ 'anis
algharibin ❀ rahmat lilealamin ❀ rahat aleashiqin ❀ murad almushtaqin ❀ shams alearifin ❀ siraj
alssalikin ❀ misbah almuqarrabin ❀ muhibi alfuqara' walghuraba' walmasakin ❀ sayid
alththaqalayn ❀ nabii alharamayn ❀ 'iimam alqiblatayn ❀ wasilatina fi alddarayn ❀ sahib qab
qawsayn ❀ mahbub rabi almashriqayn walmaghribayn ❀ jadi alhasan walhusayn ❀ mawlana
wamawlana alththaqalayn ❀ 'abi alqasim muhammad bn eabd allh ❀ nur min nur allh ❀ ya 'ayuha
almushtaqun binur jamalih ❀ sallwua ealayh walih wa'ashabih wasalimuu tasliman ❀

Darood Taj In English

O Allah, send prayers upon our master and patron Muhammad, the possessor of the crown, the Mi'raj, the Buraq, and the flag, the repeller of hardships, epidemics, droughts, diseases, and pain. His name is written, exalted, combined, and engraved upon the tablet and pen. The master of both Arabs and non-Arabs, whose body is sanctified, fragrant, pure, and illuminated in the House and the Sanctuary.

He is the bright sun, the full moon of the dark night, the foremost in loftiness, the light of guidance, the cave of refuge for mankind, the lantern in the darkness. He is of beautiful character, the intercessor for nations, the possessor of graciousness and generosity.

Allah is his protector, Gabriel his servant, the Buraq his mount, the Mi'raj his voyage, the Lote Tree of the Uppermost Limit his station, two bows' length or nearer the object of his quest; that which is sought is that which he desires and that which he desires is that which he finds.

He is the master of the Messengers, the Seal of the Prophets, the intercessor of sinners, the comforter of strangers, the mercy for the worlds, the delight of divine lovers, the object of yearning, the sun of the gnostics, the lamp for travelers upon the path to Allah, the lantern of those brought near, the lover of the poor, the strangers and the destitute.

The master of the two weighty things (humans and Jinn), the Prophet of the two sanctuaries, the Imam of the two Qiblas, our means of salvation in both abodes, the one at two bows length, the beloved of the Lord of the two Easts and the two Wests, the grandfather of Imam Hasan and Imam Husayn, our protector and the protector of the two worlds, the Father of Qasim, Muhammad, the son of Abdullah, a light from the light of Allah.

O you who yearns for the light of his beauty, invoke abundant blessings and peace upon him, his family, and Companions.

credit: <https://salawathub.com/darood-taj/>

Darood Taj Urdu

اے اللہ ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، تاج، معراج، براق اور پرچم کے مالک، مصیبتوں، وباؤں، خشک سالی، بیماریوں اور دردوں کو دور کرنے والے۔ اس کا نام تختی اور قلم پر لکھا، بلند، یکجا اور کندہ ہے۔ عرب اور عجم دونوں کا آقا، جس کا جسم مقدس، خوشبودار، پاکیزہ اور گہر اور حرم میں روشن ہے۔

وہ روشن سورج، تاریک رات کا پورا چاند، بلندی میں سب سے آگے، ہدایت کا نور، بنی نوع انسان کے لیے پناہ کا غار، تاریکی میں چراغ ہے۔ وہ خوبصورت سیرت کا مالک ہے، قوموں کے لیے شفاعت کرنے والا، رحم دلی اور سخاوت کا مالک ہے۔

اللہ اس کا محافظ ہے، جبرائیل اس کا بندہ، اس کا براق اس کا پہاڑ، معراج اس کا سفر، اوپر والا لوط کا درخت اس کا ٹھکانہ، دو کمانوں کی لمبائی یا اس سے زیادہ اس کی تلاش کی چیز؛ جس کی طلب ہے وہ ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ پاتا ہے۔

وہ رسولوں کا سردار، خاتم النبیین، گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا، غیروں کی تسلی کرنے والا، جہانوں کے لیے رحمت، الہی سے محبت کرنے والوں کی لذت، تڑپ کا سامان، جہالت کا سورج، چراغ ہے۔ اللہ کے راستے کے مسافر، قریب آنے والوں کا چراغ، غریبوں کا عاشق، اجنبیوں اور مسکینوں کا۔

دو وزنی چیزوں (انسانوں اور جنوں) کا مالک، دو حرموں کا نبی، دونوں قبلوں کا امام، دونوں جگہوں میں ہماری نجات کا ذریعہ، دو کمانوں میں ایک، دونوں کے رب کا محبوب مشرق اور دو مغرب، امام حسن اور امام حسین کے دادا، ہمارے محافظ اور دو جہانوں کے محافظ، قاسم کے والد، محمد، عبداللہ کے بیٹے، اللہ کے نور سے ایک نور۔

اے اس کے حسن کے نور کی تمنا کرنے والے، ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔

From The Article: <https://islamizam.com/darood-taj-pdf/>